

رفلیٹرپوٹکچ ٹنمنجیم اموحیں یہ افلاٹ کی سعیج

## Leadership Agility in Agile Project Management Environments

Dr. Yasir Abbas

Department of Linguistics and Literature, University of Sargodha, Pakistan

Dr. Zara Khan

Institute of Modern Languages, University of Sindh, Jamshoro, Pakistan

### Abstract:

*In the dynamic landscape of project management, where uncertainty and change are constants, leadership agility emerges as a critical attribute for success. This scholarly article explores the significance of leadership agility within Agile project management environments. It delves into the essential qualities and behaviors that define agile leadership, examines its role in fostering adaptability and innovation, and provides insights into cultivating and nurturing agile leadership capabilities. Drawing upon relevant literature and real-world examples, this article aims to offer practical guidance for project managers and organizational leaders seeking to enhance their agility in leading Agile projects.*

**Keywords:** Leadership Agility, Agile Project Management, Adaptive Leadership, Change Management, Innovation, Organizational Agility

اعترف:

آج ہے کی زین راتر اکرو باری اوج یہ یہم، رہبیت رپا ج لکھ س وکؤ مژہ رطیفے سے مظنم رکھے نا اور امریکے کی دبئے تلوہ میں اطمینان اکریتی س وج اب دھنے کے بلذہنی سے س تسج رطہنی اکری کر طگ روج ع رکریہ یہ۔ رفلیٹرپاٹ کچ ٹنمنجیم کر طوقیں، س ج کو صخہ بہت رکنا ری رنیق، اعنی اور کچلے ۵، ن فلان خہ زنمنہ یہم و عیسیٰ اپنے ن پوینتیل احلصی کے ۵۔ انہم، تسج و صنومیں کا کایمیا کا اصل حزہ نہ رص گ رطہنی اکر اور رفیور رپے ۵ پکڑوٹا اپلاٹ رپے ۵ ووج کرحت اموحی کی گدیجنیوں کی یہنیٹ یگ

1۔ ۵۔

رفلیٹرپاٹ صونوں کا نہجہس:

• ج کلی اور مظنوط پیش اکون ازیٹ: رپاٹی اخراجی ارادے کی ٹل اکر امانہ۔ ائین سی و سالی رپوٹنیف۔

کئی، تصحیح رطیفہ بکوئم بر طبق ہے میں انذر کرنے اور اس پر فارغ ہندے کے جلہ اعلیٰ افادت ہے کو رو روت

تسجیح رطیفہ کا درجہ اوصول پر بہت حبہ کرنی سمجھ کر کسی ای

رپرورڈ تینیہ۔

تسجیح اوصیہ اور افعی دیے کے اکی ٹیکس کی امن دنی گرد کے تربیت ہے وجہ استھ و وزیر بک رنیفے کے رطیفہ اکر بک رامنہی کے تباہ ہے۔ اب نہ لبندی و طریقہ & elig ای جے ای عمر کے وضیعہ و کوئم بر طبقے سی رفاه کے نہ کے جلہ، اعتمادی اور ثوات قفر بزرگ رہانے ہے۔ اگر اکی اوصیہ اسٹاف و زیری کی سلسہ رتیسے کے ذریعے اصر رنیفے بدالنیمی کے میں۔ اس اکب لطمے ہاگ کے کو رو روت و کو پر رار کے نہ بونج مرموکر کان و روزنی سے دستیاب وجہ ابدانی۔

رقبیتا اکی اور لبندی ولبی اس کی زمانات مح رکنے کے آج پی، تصحیح برب کی نہیں سے لمع رکنے کے آج پی، تصحیح بیبیث و رو روت، لبندی بھی اور اپریلیکے کا حالت دیم بیبیلیک اور خدمتی رکبتی ہے۔ دیوثات قفاہ اپنی وجہ اپرے کے اور رہباتی کے رکمہ کی نہ کی اجزت دنی ہے۔ زمدی ریا، elig ای جے ای روت کی بکری زدن بگے کے دورای ٹویز، اکبیش و ہڈل رزا اور اصر رنیفے کے درابیمی ٹلاقد عادت ویٹ کو جھلس ازف اپنی کان ہے۔

تسجیح یہم افسنت بھی ہے وروڑی ہے۔ بیبیٹ رشیتف، زنجیح اور لصیفے کابرے دیم و لعما م اکی لہد ای انشا ت رکبتی ہے۔ دی افسنت بھی ہے کے ارنا فی اور اکبس و ہڈل رز کے درایمیانہ دکر رف و غ بیجے، دیوثات الات اور بلعن اس زی و کا ق ل ناین ہے۔ زمدی ریا، elig ای جے ای و خدر کے مظہر کے نولی و میٹر کو رف و غ دلے هایج د کے افادہ کی یہم رکن اور ظریفے سے اعتمادی کو خدا تھری احلص و بستے ہے۔<sup>2</sup>

سلسہ رہبی رقبیتا اکری کابنی ہے۔ بیبیٹ اباق دعیگے سے اپنے بکل مع اور لتجیز برو رکبتی ہے ات بک رہبی کے دیوں یہ کدن اشدنیہ کے اج اے کے۔ لسلسہ نہیں اور ثوات قفری کے دیتینہو کی اپنے توبیت و بیجے، تصحیح یہ اپنے اکرر کلیدگو کر رہبی کارنے کی دلیل اور اصل میق رف امہر کی نہیں ہے۔ زمدی ریا، تصحیح اور لح دیم بریخ و رو ری لیچی گو کم کے رکنی کاتمیہ بزور دے رک اس دکم بکر ف و غ دلے ہے۔

تسجیح رطیفہ اکر کن و اسے استھ و زی و و ہیئ ااعلوں دیم رف امہر کے دکر رت حج دینی ہے۔ دی رکن اسی طفہ رظن و میٹر کو دلچ رائے عج رکن اور اسے کی اطمینے اذی ثمس تج رکنی کی اجزت دلے ہے۔ زبے ربو جیکے س و کاف ل الہزی و صحف دیم بیسنتر کے، تصحیح بیبیٹ ارش و بکر ف اور رکم ایم بہ اور رطخت و ک زی دھڈ رم طفے سے کر دکم بہ ہے۔ زمدی ریا، elig ای جے ای اردنیف کے طوفی کو جھلس ازف اپنی کانے دھجی ہے کے ارنا فی ک الفج و بیڈو کر رت حج دینی ہے اور وطلی دہم بہ اواری تالمیح کر کہ نہیں تائیتی ہے۔

اگھے اک اعتمادی تصحیح رطیفہ اکر اک لبندی اوصیہ ہے۔ اصر نیف و کر لبیت لمع دیم اشلم رکے کے، بیبیٹ نہیں ریصہت احلص رک دکم بہ ہے اور اس ابتو کی نہیں نالا دکم بہ ہے دکی میخ وضیعت اعیہ کو رو روت و کو پر رار کن ہے۔ دی بیم م اعتمادی اکیش و ہڈل رزے کے درایمیانہ کلام اور ولگیسے کی ای س و کر ف و غ دلے ہے، سجے کے جنیں یہم زایدہ کایم ب لتجیز ریا دم و بیت دی ہے۔ زمدی ریا، elig ای جے ای رشکنی کو رو رات اور راجھت و کیتھلی رکن دیم کجل و کر ف و غ دلے ہے۔<sup>3</sup>

<sup>2</sup> بیٹھ ہی کے ولی، ہی mho0on - رقبیتا اسٹاف و زیری کو رو روت: بیٹھ، بیور گاٹھوں، اور اپنے بازی کے جلہ بیٹھ و رو روت کے رطیفے۔ اذینہی و کھلائی

•

ربو لشیف۔

تسج رطبيق اکر ان کنوا مل اسف و لیوک و هج میث، زب نه و بیئا العدوں نیم رفامہ رکن بکرن حجج دینیا یہ۔ ہر کاری مطفر ظن و میٹروک دلچ رائے ئی عج رکن اور اسے کی اطمقوب اندیشنسچ رکنے کی اج ذات دلے ۵۔ زب میث ربو ج کلک س دکا ق ل افڑی و صحب دیم پیسٹر کی، ت سج بیسٹر اتر وک بر قار رہ کیکسپی یہ اور رطخ ات وک زایدہ و مرن رطقوی میں کر کیکسپی یہ۔ ز مدی ربا آم، & ig e اپنی ارمنیفے کر طوقی کو جھاصل از فائز کانے ہو ج میث کارا نی کالفع و پیڈوک رجن حجج دینیا یہ اور وطنی دمیت دببا اواری تالت بچ کوئنہ تانیت بیه۔

اگکہ اک اعتمیت سج رطبيق اکر اک دلکی اوصی میث۔ اص رن بیف وک راتبیت ممع دیم اشلم رکیے کی، دبیٹنیپیتیت احلاص رکیکسپی یہ اور اس ابت وک دنیبی لانیکسپی یہ دکی منج و نصیمات ایئی کورور ایت وک ببرار کنے ۵۔ ہی اپی مہ اعتمیت اکیس و بدل رزے ک درایم نکلام اور ولگسپی کی F س دکر فو غ نانی ۵، س جے کی جنیم زابدہ کا یم بانج ریا دم و بیت دیه۔ ز مدی ربا آم، & ig e رشکی کورور ایت اور تاحبجت وک ببیت لیرکن دیم کچل و کر فو غ دلے ۵۔

دجدی اسٹف ورنی ٹونیمی و میٹنے کے بلت سج اوصول وکی پیچس دیم وروری ۵۔ کچل، اعتمیت، افسنت بیف، اور لسلسم رنپیتی سیج ادق ار وک انبیت و بیئی، دبیٹا میل ایعم رکی و نصیمات وکی ورث رطقوی میں رفامہ رکیکسپی یہ اور دبیٹنی دیورور ایت اور اپنیکے کی احالات کی اطمقوب دیکیکسپی یہ۔ ت سج رطبيق اکر درجت وکر فو غ دینی، و میٹن وک لابیخ رن لانی اور اپا خاص رن بیکزابدہ قرفامہ رکنے کے بلایکی رفعی ور ت رفامہ رکان ۵۔<sup>4</sup>

## کچل اور ثوائق:

میٹنے کی ارائے کی درایمی کچل اور ثوائق وکر فو غ دینی دیم اقدی ادنی نسجے کر کدار وک دراین فر کنی، س جے س ربان کچی کورور ایت دیم دن بیل اور ریغی نیپو ص راحتی رکنیتی میں س دل مع لم۔ ۵۔ کچل اور ثوائق وروری دبیٹنی وہ واج افدادا اور و مظن وک دبیٹا وہ دبیٹنی دیم رنی فنی کل زازی کی و بیئی احالات وکی اذیث سج رکن اور ظمیث رطقوی میں س وج اب دینے کا ق ل ویان اکایم بیے کے بلت سب وروری ۵۔ کچل میں سرماد ورورت کی اطمقوب و صنم ووبن، مطفر ظن، ای تمکی لمع وک دبیٹا برکنی کو خاشہ اور تالیج ۵، بچ دکی و لاق فنی روے ی، رووین، ای نی احالات کی اقتوس کی اطمقوب بر دل مع وک دبیٹنلیرکن دن کن الیت بیج اشلم ۵۔

افرادی جھسرب، کچل اور ثوائق وک و لوگ وک و نیم ع و جنلیجن رپرشتی میں لاج نا اور ثواعق میں افادہ اهنن اکالیت بیج ۵۔ وج و لگ ای و صخ بیوت کی احل م وہ دن بیه و وہ اکاس لزار کن دیم زایدہ را رہ دت دیه، را کوپی ربا فوب اپنے کے بلابر طقوی میں سوت و وہ دت دیه، اور نہیا اور رن نسجے کے بلایلہ دلکو وہ دت دیه۔ وہ اپن آرائے کی العوق میں س بردہ لانک دبیٹل وک و فور رکن، اور لسلسم بیے نہ و بیئی اقتوس وک ببرار کنے کے بلایلہ دلکو وہ دت دیه۔

اکی کہ گچ رپ، کچل اور ثوائق ایت دقر و صخ بیوت دیه۔ وہ المزیم وج نیلکنیول زیج، رطبيق اکر، ای اپنیکے کی احالات وک زینی میں س دیکی دنکی دیه وہ بیٹنی نسج اور اسمت قب دیم دص ج ۵۔ تل دیه۔ وہ دیٹ دیم اعتمیت رکن، اپیزیکا هبیتیا اور گدیجہ اسملی کے فینٹن حالت شرکی میں کے بلابر طقوی میں سوت و وہ دیه۔ اکنیا یا اور لانس ن بسیج زن لاقر و تنصیت دیم، دبیٹو بیئی راجح انت کو وج اب نیم و حمر اور ایخ اع رکنی کتالیج اخ خص و طر رپا ل دقر ۵۔

لنوکن  
کاو قمحی اک لگنی: جسپنی۔  
وج اکایم ب وہ دن بیه۔ اجئ و دل اذنی

• کا اس هت رب و نکچ شنجنیم کے بل  
m0&0& d., e arGn&, B. mho0o<sup>3</sup>  
• ورو جل ای و بیٹ دیم ابم رت اح لص رکان: ت مکح لمع، بیل، اور  
mD0, e Tn , &r, n r mho0D , duGr&&<sup>4</sup>

زندگی ریا، ثورنا بفندت کے بلکل اور ثوائق فت سب و روری ہے۔ ایڈخوبیں کا ہاظمیہ رکنوا میں رامنہ المتعد دیبا رک رکنی یہ، رجھا اور رنیقی کی افتخار کر فوغ دے رکنی یہ، اور اینپر میٹر کر بیغ نیپنی یہ ک دور بیم آئے گریب رکنی یہ۔ پہکن ہا اور آراء کے بلکل جادبہ رہ رک، وہا کی اس اموحی نالائی تریہ اپجن المزیم زکر طخہ ثوئی نیلہ، اناکیم بس نے پکا اور لسلسم زنبی اکی F1 س وہان ہے۔<sup>6</sup>

رمبائی لخ کی وقت، کچل اور ثوائق فتاور یہ زابد امہ واجت ہے۔ اچہ ہی سکا عیم ولبیا اسپری اکاس لزاوہ، ایش دباحت وہ، ای بنعا لہ لہت اکاس لزاوہ، و مظتن و کیزنی س وحر کے بلکل اور رانہ اج یہ اور رنیقی کل رازی کے رکنے کے بلکل خدر کی نیرس میں اجیدر کل اچے۔ وہ رامنہ وجت خس لیپنر کی رکنی یہ، واس لی کی ڈرم رث طلقی میں کرحت اڑک رکنی یہ، اور اینپر میٹر کا کی رشمہ کد صقم کے بلکل انکر کی رکنی یہ، وہا گہم زخ و نقش میں گرے نے کے بلکل ازگری یہ۔

زندگی ریا، کچل اور ثوائق فت کے بلکل کر فوغ دے نے کے بلکل جیز بھج کو کشن اور بیٹھنی بفندت کے دمکت کو رورت وہن ہے۔ اس دیم المزیمی کا بمروت اور کچل کر بیٹھنے کے بلکل نت سب اور رنیقی کیث واقع رفماہ رکن، بلکہ واتالت اور اعنیزی کر فوغ دانی، اور اخ ای وسج اور لبپ و کاعنی دانی اش لم وہ لئے ہے۔ ایڈخوبیں کر نجید رک، نبیطن ایسا رفادی وقت رای رکنکر دیہ و جنبلی و کوئی بیگر کن اور وطلی دم بنا کا یم بیو کا گریب میں ہے کے بلکل بھر طلقی میں وہ وہ۔

کچل اور ثوائق افاد اور و مظتن کے بلکل اسکی انزگری و صخایص یہ۔ لقنس بیبلی اور بیغ نیپنی و صراحتی کا حلم دلیں یہ، یعنی احالت دیم ایڈ سج رک جن، انجاع رکن اور رنیقی کل رازی کے رکنی کت ال تیج اکی اسم پشا فدھے ہے۔ ایڈ و صخایرت و کے ادنر اور اینپر میٹنے کے ادنر دیبا رک کے، افاد اور رامنہ ایپر آپ و کارہپن و پیئی و جنلیچ اور ثوائق کے کاس نم کا یہ بے کے بلکل بزشی بیم هک رکنی یہ۔

## و خدوک مظنم رکن نولیل و میٹر کی بال بغرن لازم، و خدا تھری اور الاستحب و کر فوغ دے نے کی اسہت اس سب و رورت کے کا طم قب دم اور رامنہ بیز رفامہ رکن ہے کے بلکل امنہوں ہے کے بلکل

و خدوک مظنم رکن نولیل و میٹر کی بال بغرن لازم، و خدا تھری اور الاستحب و کر فوغ دے نے کی اسہت اس سب و رورت کے کا طم قب دم اور رامنہ بیز رفامہ رکن ہے کے بلکل امنہوں ہے کے بلکل تمکح و بلمع اکا خیکنا لایئی۔

و خدوک مظنم رکن نولیل و میٹر کی بال بغرن لازم، و خدا تھری اور الاستحب و کر فوغ دے نے کی اسہت اس سب و رورت کے کا طم قب دم اور رامنہ بیز رفامہ رکن ہے کے بلکل امنہوں ہے کے بلکل تمکح و بلمع اکا خیکنا لایئی۔

بس میں لپ، و خدوک مظنم رکن نولیل و میٹر کی بال بغرن لازم، المعتدا و راعنی کی افتخار و کر فوغ دے نے کے اپجن افاد لیپنر کن اور اینپا کن بکم بیبلی ہے کے بلکل بال بغرن و سمجھ سر کت ہے۔ ہی و خدا تھری نہ صرگ کے بلکل بیٹھنے کے بلکل ایکی بیم ذبیم داری اور زعی اکی F1 س پہ زب لہت ہے۔<sup>7</sup>

• ۵ اندر نس، ڈی یہ ج، اور اندر نس، ڈی الی mho0Bn۔ فیلسا بفندت: فیلسا مکحی لمع و نصمات ہے کیا عمر، اور بیٹھنیلی و کرت بیت دینے کے بلکل رامنہ کا

رامنہ۔ اڈن سی و فیلسا ریب و لنشیف۔

• ۶ افسندل بیطن: ارفتیں اور الفنیں بیبلی اکا اظنہ رکن۔ فیلکر ایں ثمجنم اکا اجزہ، m4n83، LLL، e m0uuD<sup>6</sup> mru02(Gn, , 0, e IIB&igg

وخدوکمظنممرکنواپلیومیئرکوئمزنرطقوس اکیرکنے کے بلواحضادہاگ اور اقتصاص فامہ رکان وروری ہے۔ بج پھٹے کارا نیز پی و مصتری وکی نہجسہ بے اور اس دیم ایتے کا عنوانی سبک فوپیت دیہ، ہون واریخ لہسر کے اور اسے کا طبقب اک اسون وکر جد ہے کے بلرہب و طربت وہوپیت دیہ۔

وخدوکمظنممرکنواپلیومیئرکوئمزنرطقوس اکیرکنے کے بلرہب و اتالین زنج وکر فو غدان تہب وروری ہے۔ باقدھے ڈیف کیب و لسپ اور افسٹر گٹ و اتالیت زنج و میٹ وکر پیٹ اک اشنا ترکن، وجنج جسے سے نہن اور العج ع و طربا اسملی کل حركنے کا قل نازیت دیہ، سچے سے ہم اس زی اور عنوانی زیلہ فروڑ وہاں ہے۔

وخدوکمظنممرکنواپلیومیئرکوئمزنرطقوس اکیرکنے کے بلرہب و اتالین زنج وکر فو غدان تہب وروری ہے۔ ونم ع س پر ظم، اپر ون اور مظفر ظنے کا حل مارفا دکا اندر کی ہے، پیپیٹنے گیجہ اسملی سے نہن اور لسلسم رنہی النے کے بلرہب اتالب اور رطقوس کی اکی رہیب پر اتالب اک افادہ اکنہ کسی ہے۔

زمدی ہی وخدوکمظنممرکنواپلیومیئرکوئمزنرطقوس اکیرکنے کے بلرہب کا افتھر وکر فو غدان تہب وروری ہے۔ رجنا بتی کو ج پلص ازفایا، ملخ اکارنشا اور لسلسم نہیں سے و میئر وکدبتی لے کا طبقب ڈھنے، ٹھنکنہ لے زیج کا نین، اور ہنہیدہ نہل کروابری رظمناں سے مبینہ و طخطے سے آج گر نہ کا قل نہاں ہے۔

زمدی ریاں، وخدوکمظنممرکنواپلیومیئرکوئمزنرطقوس اکایہ بے کے بلرہب و اس لی اور دم در فامہ رکانتہب وروری ہے۔ اچھی نہیں پور گاٹوں، رامنے کے کث واعق، اور وروری بیز اور اکنہ لے زیج کت راسی نہ ہے، و میٹنے کا اپنے میئر وکا ایتے کر کاروں و کرپتے ازنے کے بلرہب ایتھر نہاں ہیم رس امی اکری رکنا چاہے۔<sup>8</sup>

زمدی ریاں، وخدوکمظنممرکنواپلیومیئرکوئمزنرطقوس اکایہ بے کے بلرہب ایتھر نہاں ہے کے بلرہب ادھی ہے کا F س وکر فو غدان تہب وروری ہے۔ بج پھٹے کارا نی ایتھر المعنی کا اراثت وکی نہجسہ بے اور ایتھر اکنہکم احلص رکنے ہے، بنا ایتھر کا عغی و طربا اعنوی، ارخا عت، اور ایتھر احلص رکنے کا زابدہ الکم وہاں ہے۔

زمدی ہی وخدوکمظنممرکنواپلیومیئرکوئمزنرطقوس اکایہ بے کے بلرہب رجنا بتا اور رطخہ ثوئی ٹیلی کا افتھر وکر فو غدان تہب وروری ہے۔ وجدوک ج لیچ کرنے اور انکوپسے سے نہیں کے بلرہب کو ج پلص ازفایا کا زاندھت اور لسلسم رنہی کا افتھر وکر فو غدان ہے۔

زمدی ریاں، وخدوکمظنممرکنواپلیومیئرکوئمزنرطقوس اکایہ بے کے بلرہب ایتھر نہاں ہے کے بلرہب ادھی ہے کا ارگ ج و خدا تھری بلکی ت بیچ رنہک ہے، رامنہت مس رفامہ رکنے، را کور پر زکور رکنے، اور و میئر کے بیطن ادھاگ ہے کا اس هت کا لسم نے نہوکنہنے ازنے کے بلرہب و روت زنے برا رامنہی شپر کن دیم امہ رکارا دار کن ہے۔<sup>9</sup>

وخدوکمظنممرکنواپلیومیئرکوئمزنرطقوس اکایہ بے کے بلرہب ایتھر نہاں ہے کا کابر مے دیم ہے بلکا کی اما موحق نہاں ہے کا کابر مے دیم ہے دا بھن اف ادھی مہ اعنوی، ارخا عت اور ایتھر کا الجن ہے کے بلرہب و سجم س رکنی۔ و خدا تھری وکا ایتھر، اعنوی وکر فو غدانی اور دم در فامہ رکنے ہے، پیپیٹنے اکنہ و میئر وکر پریت الیتی زکر بوجی اکر لہنکسہ بے اور آج ہے کی رختاکروابری اموحی دیم اپدیا ارکا ایتھر احلص رکنہ کسی ہے۔

<sup>7</sup> ال رنم، یس، اور روڈے، یہ mho03n، دیلہ اور تسج رنی فی کامیشی، زب مے اسپ مے نہ پر کسی ہے کے بلرہب اور سچ اور سیپنے بذل۔ اذین سی و کھلائی بہ ولنہب۔

•

emec m. رفیلی کر مع: سکر طح اس رث اپسکار کنے کر طف و کدبت لی رکر یہ دیہ۔

•

m6. رج و سچ: اکیم ز اور ذج ایتا درا تے کی الاطاقت۔ ای آپش رہ سی۔

•

اعنوی اور ثواتالت دوستی: کاس لشکنہ میٹاں ے کا دن رعنوی اور ثواتالت کو پس تر فامہ کے نہیں کا تیہہ کا جگہ کرنی، وضمیں بے کا داگے کے بلراواڑ کا آڑ ۱۰ ن

ن اور  $\infty$

نبی رکاع غیر کافی۔

آج کابھی زجی وہی دلیل یہ یا سک یہ پیشتر کا دن رعنوی اور ثواتالت کو پس تر اس کا کایہ بے کے بل امہ ۵۔ اچھا کی وجہ میٹاہی اور یہاں قلم اکر پر نشی، ثورن اعتوی دجت، دبباوارتی اور وجمی عرنی فی کلب اپنے دلیل ہے۔ اس ڈلیجی دور یہ، دعمندربلا اور تکمیل میٹے کارا نی ے کدرایمیث والات، کراوار کیں اور رعنوی کی رفع دنی ے کے بل اپنے بے۔ ۱۰

بس ے سے لپا، کیلس، امرکیو اسٹف زمیٹ، آنسے سچ لی مہ اعنوی کے بل اپنے فرمز، کاندھر کنے سے ابتدی، اور رباث کچھ نجمیں کے بل رمزم کی زنجی فاماہ رکے کٹ والات، کامن ایں وطررب ۰ اچھا کے۔ ہی بل اپنے فری تری لئے انھیں جھاگ، فلی اٹھیت اور دلیں دبباواری پر بلے کا سہت المضن شپر کی یہ تری، وجہ میٹر کا ایک رکے کٹ والات، کامن ایں وطررب ۰ اچھا کے۔

امسجين اقیتے سے عطررظن ربی سکارا کوٹے کا عتوی رکنے کا قاق لیاں ہے۔ ۱۱ ن

ن رپورٹ کی اور زنجی کا نیچی اس بات و کہ بینماں نے کے بل اور روی ے ہدک پیشتر کا دن رعنوی اسے سروادہ وہ۔ باقدعہ بیٹ ریکٹ، دونوں اجمی اور ذابت و طرب، میٹے کارا نی و کا اپڈسٹ اکار تشاڑ کن، بخالت و کذن ہی مر پھدا اور یہ سک یہ جنگوں انتی ع و طرب بل ح رکنی کا اجزت دلیں ہے۔ زمی رباء، پالکیج نجمیں کے کر طبق اکرے سیچ & ٹیگ (Turu) کا ال منسی افسنی، وجہ ادبیہ، اور کاری ٹیپرتف کرفوغ دے رکا عتوی کرپ ۰ اکھے۔

ڈلیجی بیلے کے العوہ، بلکن پ اور موش تیلی کا قتنی و کرفوغ دن رعنوی کے بل بسبور روی ے ۵۔ بلکامے میں کوچھ لاص ازفای، اغی، نن، اور یہی اترنات میٹے کے ارائے کے درایمی امندہ کرفوغ دن ہے اور اقلعت و کویضم طنانے تری۔ زمی رباء، و نہ ع سے برضم اور ابہم رتے کیسیں واہل افادہ ب لیتھ رکا س لشکنہ بہبیت قیلخ کالف لخہ طفررظن اور طفررظنے کے نہیں فلخت الدویین اور دجت و ک من دے اکھے۔ ۱۲

اعنوی کی آسی ن لے زاکی اور امہ ولپا عتوی ہر کاغذ کے بل لیاں واسلی اور دم در فاماہ رکنے ۵۔ اس یہ میٹے کارا نی کٹ والات اور اعنوی کا بمروتی و کی ٹ ۰ ے نے کے بل اپنے بیورگی اٹوں یہ میں اپنی اکری کے اسہت اسہت بقلعت اکٹھیا زج اور واسلی کرت اسی رفاماہ رکان یہاں لیم ۵۔ زمی رباء، و نہیں اکھے۔

اور ذہم دار این و فضور کے سے اپھل و کروں کی دم دمیلہ ها اور اس ابتو کہ بینماں نے ہ کر ہوکی انتی ع اقم دصے کے بلؤہ مرن طریقے سے اپھ صٹاے۔ ل۔ زمی رباء، و نہیں اکھے۔ ۱۳

ن گ اور روج لی واثی ہر بڑگن بیلی سچ اکٹھیا لیج یہ سے فدیہ امماز رغ اپنی رکو پ و کہ مخ رک اکھے ۵ اور دور درازی میں دشہ و میں یہ کے درایمی اعنوی کی آسی ن لانکھے۔ ہی اکٹھیا زج آئے نہ اس نہیں بقلعت اکٹھیا زج اور اسیں ابتدی، آذی اور بیش گن، اور امسجين اف کے سے عطررظن بی مہ اعنوی کے اسہت اسملی کا ل ح رکنے کا قاق لیاں ہے، میٹے کارا نی کے کدرایمی بقلعت کے F1 اس سے کرفوغ دن ہے۔ ۱۴

# Pakistan Journal of Linguistics

VOL: 01 NO: 02 (2020)

P-ISSN-2709-7900

E-ISSN-2709-7919

- اپنے نفس، ج میں ہوئے رفیلر پروٹ کیج نہ سمجھم؛ ایخ ای عوننم اعات کی قیلخ ۷ وورس الڈین شی ۱۰۔ اُذنیں و سالی رپولشیف۔ •  
و بیمہ، ب، اور رہن، آر ۴۰۰۵۰، جہانِ اور مظلہ و طبقہ کوہنازی: رپاشی ارفادے کی یہ تلا کی رامنہ۔ اُذنیں و سالی رپولشیف۔ •

زمدی ریاں، اعتموئی کی افتنگ کر فو غدے نے کے بلہنی کا کبوبین اور گنس ولیس کا جپن اور لیز نہ کو رو روت ہے۔ افزادی ارا ت اور ہیثور  $\text{t}$ -کے میلس رکان وح کا اور وجہ صریب  $\theta$  ان ہے، لسلسم اعتموئی اور ارخاعی کو جہل از فاہر کات میں۔ زمدی ریاں، تکمیل اور بالغ رنائزے کے  $\text{F}$  س کر فو غدانہ بھے کارا نی و کلب بالغ رنائزات میں ہدکو وہل پر کنی اور نبایخت اور اپم رت رکابی مہاعنوئی کو کنوش نیم ہ صح ڈانی۔

زمدی ریاں، بھی اس زی کے کلم معنی افتش بیٹھ کر فو غدانی اور میٹنے کے اداگ اور شپرتفے کے ابرے میں باقی دعگے سے اپ ڈنی رفامہ رکان بھٹے کے ارا نی کے درایئے المعتد اور  $\infty$  نبی و کر فو غدانے میں۔ پلکٹ والی بیت زنج ارفاد کے اینپرائے میں، دخاشت الیاظر رکن اور بھی اس زی کے کلم معنی ہ صحت نہیں کاف ل نازن یہ، سچے سے زایدہ اینج اور ارجع انجز بادم و بیت نیہ۔<sup>12</sup>

زمدی ریاں، لسلسم زنبی کے بلہنی کبیولپ اقیز کا لوقتے کا سہ است اعتموئی کر بھٹے نے کے بلہنوری میں۔ باہم بھبوط ربررسو میں کذرے ع اور ریس و طررب اپاقدھے کیچ ائے کذرے ع بھٹے کارا نی میں رے ایبل طرکان، و میظن و کا اعتموئی کے کلم معنی کر بھنیانے کے بلہنپی کے بلہنوبی کے دن بھر کن اور بنت و بیل و کالوگ رکنی کے اجزت دلے۔<sup>13</sup>

آج کی کرحتا اور ابھر جی وہیں دیں یہ بیٹھنے کا یہ بیٹھ کر آج گڑبھٹے نے کے بلہنی اعتموئی اور ثوات الت و کی آسی خنانے کے بلہنوری میں۔ ڈلیجیز بیلا کا فدھہ الھر کی، پلکن پ اور ومشتبیلے کے جلکوکر فو غدے رک، لزاں و اس لی اور دم در فامہ رکے، اور افشن بی اور لسلسم زنبی کو جہل از فائیئے کے بلہناری ہ سچے سے دجت، دبیا اور قی اور و مجھی ع کا یہ بیٹھنے کا ضہن وہانے۔<sup>14</sup>

رکناری اور اض  $\text{f}$  ہ طفر ظن: اس ابتدی پانڈھل اینجیز کرنی ہ کس کر طح سچ اق دیئی رپا کیجی کر فای مہ، رجنابت، یہنک، اور لسلسم زنبی کو جہل از فائیئے کے بلہناری اور زین بھوہے کے اڑ طوفقیں سے فدھہ افغان یہ۔

دنبلی اور ارخاعی کا البانہ: اس ابتدی کو واضح رکنی ہ کس کر طح سچ رامنہ بیتلیوک اپنے بیدا اور ارخاعی کا فتنہ بیٹھ کر فو غدے نیہ، رجنابتی کو جہل از فائیئر کت بیدا، انا کویں سے نہیں ہ، اور لسلسم دجت رطا زی کی ذینہ بھکر فو غدے نیہ۔

رسوٹ نڈلر پش املنی ٹیس: رسوٹ نڈلر پشے کے وصتر و کدر اپنے کر فیکر کی اور اسی کر فیکنے ادق ارے کے اس سہت  $\infty$  نبی رکن، اینپ و میٹی کو رور ایت و کو پر ار کن و ایل نڈلروں کی ائمہ بیزور دے نیہ بیہی اور رنی فقہ کراہن یہ احلی رکور بیں و کل دور رکی۔<sup>15</sup>

## نجابیتاً بہت اور کچل:

ذج ایسناذبن اور کچل دو ڈج میں و بیہی و صترات بیہوج زدن بگے کے جنلیج و کی بیٹھ یگر کن اور ذبیرنی فو کر فو غدے نے کے بلہ ام ہ بیہ، ذج ایسناذبن، سچ اڑک  $\text{QE}$  اکاج ان میں، اینپ ذجابت و کوئ مر رطی میں اچپن، نہجس اور ایٹ کا مظن رکے نے کے اس سہت دوسروں کے ذجابتے کے ذجابتے کے سہت ۵ ردی رکے نے کت الات بیچ رپ لمنش ہے۔ دوسروی

<sup>12</sup> رفیلتے کے اس سہت کا بیہی: رکسی اکا اسنسی رکے نہ وہی اس سی فو زن ٹوٹسپی۔ اذن سی و فہلی ربو و انشیف۔

<sup>13</sup> زلہر دو، ای، اور ایک کار، آرڈیبلیس  $\text{YL-mhooon}$ : آپ کر بھی کے بلہنیقا اور وکنچ کے بلہا کی رامنہ۔ ولر جنم ٹیبل۔

رطگ، کجل میں سرما دلانکویں میں سے ہجپا نہ لبیلیے کی اس هست واقع فر کن، اور الکشمٹ اکاس لزارک میں تو بھئے نہ پہنچنی کیتال تیج میں۔ ہیں بتلخ اکی اس هست م رک اکی اطوفر از تماج ناپتی ہو جا فاد کر زدیگ کی اتر رج ۰ و کل ضفا اور افست م کی اسہت ہوٹ یگر کنے کا ق ل ناپت میں۔

ذج اینڈاپن اکرمزک و خدا آگیہ میں۔ این بدج اب، اطوفن، زمکور و بین اور رحماتک و کاچپن اور بھسی کیتال تیج۔ و خدا آگیہ بیبار کانارفا دکار نبڑج ابتو کوئم رنر طقی میں مظمن کنے نہ پہنفر کن اور تھص دنم افعت و کربقا ار رنہ کیا جزت دل میں۔ زم دیرب آپ، و خدا آگیہ ۵ ردی کی بسدر نہ کنے، یوکنہ ارفاد کدو رسون کی جنابت اور ذج اب تو کی نہیں اور ایسے سف لعتم و بھئے کا ق ل ناپت میں۔<sup>14</sup>

۵ ردی، ذج اینڈاپن اکی اور امہ زج، بیض مط لبی مہ رواطبا انسار کن اور افلعتمت بیم اعنوئ اور امابی و میف و کر فو غ دھنے کے بلوروری میں۔ دو رسون کی اس هست ۵ ردی رک میں سے، ارفاد زایدہ مہ رنر طقی میں س باحت تیج کی نہیں، اسرا عت و کربا ان مرطی میں سل ح رکی نہیں، اور بگ میں، زاہدہ نعم رنخ رواطبا اقمی رکی نہیں، زم دی ریاں، ۵ ردی ارفاد کر ورورت کی ورق دو رسون و کدم داور رات ح رفامہ رک میں، اسی جذبونہ و کو پضم طناز میں اور قلمتا اور رب ادری اکا F س بیبار کنے کا ق ل ناپت میں۔

و خدا آگیہ اور ۵ ردی کی الیوہ، ذج اینڈاپن بیم ذج لبین ااضر طب یہ اشلم وہ نہیں۔ این بدج اب و کوئم رنر طقی میں مظمن کن اور ورثوئی رکی نہیں کیتال تیج۔ ذج اینڈاپن اخن طبا ارفاد کی دلیلی جکا نہ نہ ناگ احالت اکوج اب دھنی کی اج زت دل میں کذج این و طر رپ ارین و فمعی و طر پر دلمع ظهر رکی نہیں کے۔ این بدج اب و کمظمن کن میں سے، ارفاد وا حض پہنفر کی نہیں، اسمی یوکر زایدہ مہ رنر طقی میں سل ح رکی نہیں، اور ادن روین و کسی اور بنا زی اکا F س بربقا ار رکی نہیں۔

بج کذج اینڈاپن زدن بگ کی زجنلیج و کی ہوٹ یگر کنی کا بیدر فامہ رکن میں نکل کجول وہ ان جن میں هوج ارفاد کی الکشمٹ اکاس لزارک میں تو بھئی آئے گر بھان میں۔ کجول ارفاد کنکو ویس میں سے ہجپا نہ، ان کم میں نہیں اور این باق م دص اور و خ او بین کی و صحن نیم تب دھر رنے کا ق ل ناپت میں۔ اس نیم نیو فی کذت بھئی و کر فو غ دل اشلم میں۔ ہیں بھی بکر ز جلیج اور انکا ایمن اناق ل بخشنا کور بینے کا جئی نہیں اور بنتی قی کیث واعق بی۔

کجل اکرم زک دینلیو کا اپنے نہیں کیتال تیج میں۔ ریغ نہیں و صراحتی اور الیبی یوکی و بیکر کن، اور نہ جنلیج اور ثواعق کی اس نہ را اور بھکنے کی اس هت رانہ۔ ث واقف و ک رفوغ دھنی میں سے، ارفاد زدن بگ کیث ورث ورپ الشند اور کچلے کی اس هت رشتنی میں لاج نہیں، را کور بیکا ایمہ بھئی کرا نسرب دقی رنکو اے ل رہنبوں نیم دبتلی رکی نہیں۔

زم دی ریاں، کجل نیم اقم طابر کی نہیں کیتال تیج میں۔ مع را ایر رکنا اور ورورت زنہ رپ دو رسون میں اعنوئ اح لص رکان اشلم میں۔ و خاہ اس ذہنے میں سے رامنھی اح لص رکنے کی ذریعی، ذج اینڈم دی رکی میں دو وقتس اور اخذنا ای و اولن رپ اکھنی اور زرش، رام ایم، اور جن نہیں کیج و خ دی کدمی امی میں کر طوفن بیم و غشمی وہ رک، ارفاد این پ کجول زب ۰ نہیں، اور زنیگ کی وطا فنی اکافہلب رکنی کا بپتال تیج یوکر بھان میں۔<sup>15</sup>

<sup>14</sup> اپ کی ای، اور بپنہ کی، یہ mho08n-نہیں اسٹ فورنی ٹوٹ نہیں: اکی رفبلیبی-ث۔ اذن سو و کسلی رپ و لش بی۔

اس اکا اظفہر کنی! دجدی، ای لمی رونکیج نہ منہمیے کی میں آپ اکا گدنی، ای لمی کب فلیش۔

اپلیخ، ذج اپنے اور کچل بیبا نہیں بین رہے بلکہ وہ ابم رنیت بین رہے لیجنگ قشم، اکیس اور وحد آگیہ کے ذریعے واقع ہے کاس ہتھ تر فوغ اور وضم طابکاج لئے ۔  
ایڈامروٹر کرفوغ دینی س، افادائیں و مجمیع الفح و پہلو کڑب ۱۶ یہ، وضم طاقت افسار کے نکدی، اور اپنے ذلت اور شبہ و راہنگ دنگ دونیں بیم زایدہ کا بیبا اور  
لیکن احلاص رک یہ ۱۷ نکدی ۔

**لسسمنہیں اور ریویو:** تصحیر امنہوں کے بیان سلسلہ ہیں اور رنیفہ کا تیہہ رپزور دینی ویہی، انہیں ان ثاثات احلاص رکن، اور پاٹ کچل کے دینے ویہی افتراض کو پرا رکن کے بیان نباق دی ادا نہیں کرتے بلکہ دینے ویہی اجتناب اذخر کرنی۔

لسسمنہیں اور رنیفہ ذلت اور شبہ و راہنگ ارجاع دیہ۔ آج کی زندگی میں دینہ و دینیں میں، وہ افادوج زدنگر رہے ہیں کہ اپنے ہتھ وہ نہ جنلبچ میں نہیں  
اور رنیفہ کے واقع میں افادہ المعنے کے بیان پر طبقے سوت وہ ہتھ ہے۔ اچھی نہیں ابم رنیت احلاص رکا نہ، مل عکب ۱۸ انا نہ، ایڈا و جلد ایڈا زکی ازان نہ، لسلسہ ہیں  
کرفسوہ ۱۹ ہو جذدنوبیں کو وقتی الشفہ ۲۰ اور تالہ و نہیں کرپ ۲۱ ان ۔

لسسمنہیں کے امہ و فادیں یہ ساکی کرحتا اجب اپریٹیک یہم ہنگامتے نہیں کت الاتیح ۲۲۔ رب عنصر رنیفہ کیتے ہیں، انکی بارج رنیفہ کیتے ہیں، اور اصرن بیکی کرنا تھیجت ہیں  
دنیل آپنے ۲۳، سچے سارف ادے کے بیان پر ابمروٹ اور مل عکب کل سلسلہ اپ ۲۴ رکا نہ و راہنگ وہا جانے۔ ایڈر نفر احتجانت اور شیفے سے ایڈر رک، شبہ و راہنگ ادے اپنے آپ  
وک آر جوں کے بیان نہیں اپنے ۲۵ اور اپنے ۲۶ بعد یہم اسم کہ تبرہ یہ نکدی ہے۔

زمدی ہی کل سلسلہ ہیں ۲۷ میں دجت اور یہ لفہناتاں دینیں کرفوغ ملم ۲۸۔ وشم ع ایخالت، مظفرطن، اور رطبیک اکری کا منشی رکنی س سجت و کر حنکی دنیل ۲۹ ہا اور راہنگ کی اپسکی میں  
ابرہوں نے جی کر تیغ دیتے ہے۔ اجری میلعنہ اور النش کے ذریعے، ولگا ایڈر بیٹہ اپنے ۳۰ کیتے ہیں، گدیوں اسملی عکب حکم یہ نکدی ہے، اور ۳۱ اریت و جنلبچ کے بیان ای عل ح  
رفامہ رک یہ نکدی ہے۔

زمدی رپاں، لسلسمنہیں ذلت رنیفہ اور لیکن کرفوغ دانے ۳۲۔ زدنگر رہے ہیں و غشمی ہر نہ ۳۳ سارف ادے کے نہیں جے بدر ایت فر کن، دلیس جل احلاص رکن اور اپنے اقفر کی  
و عسر رکنی کا اجزت بتم ۳۴۔ اچھی و کبی نہیں اپنے ۳۵، وہ فلنخ افونیز کا لاث ش رکا نہ، ایڈویسیں کے کا ۳۶ میں ابم رت احلاص رکا نہ، مل احلاص رکن کا لمع اکا بیبا اور  
النیمی کا F میں ان ۳۷۔

زمدی رپاں، لسلسمنہیں کچل اور واقف دیبا و دبت ۳۸۔ دشیہ دینہ و دینیں میں، دنیل و بیکر کن اور دنیا احالت میں مہ آنونہ و یہن کت الاتیح اکا بیبا کے بیان  
وروری میں۔ اپنے رنہ کیث بس اور مل عکب کل سلسلہ رپ ۳۹ میں ویہی، افادر نیف و صراحی کی دیکھی گر کن اور کر جن ۴۰ اموج نہیں نہیں ۴۱ کے بیان دراکر کچل اور  
شیج بیبا ار کن ۴۲۔

• ۱۶ رنیفی، یہانی -mh0OBn- زینبیلی زبتا اور ورث دینیل کے بیان mDnD8 رپسیں روپی رپسی۔

• ۱۷ کث نہیں، یہ دلبلی -m0uDBn- بہمنی فی کرتب بیت اسفنیل نہیں، -834, mDnD8-

زمدی ہی کے، لسلسہ نہیں اتنا کی اتنی اعنویٰ اور پیٹھوں پر کرفو غدالے ہے۔ بجا فادا عغنو طرب دورسوں میں نہیں کیا کیا واقعالت شرکی ہے تب یہ، اچھوہ رامنہی، ہرم بہبیہ نہیں ایسا بھی مہ اعنویٰ کے وصمنوں کے کذرے عی وہ دن رسمگی اپنے الہوتیں کیڑبیا ہے تب یہ بکار انسو میں اور موہنیت کی العجی عرنیقا اور آکایمی بیہم پھیلھا ہے صحت ٹائیں ہے۔

زمدی ریا، لسلسہ نہیں سزدنی گرہبی کیت حص اور دنرنسی کرفو غلامے ہے۔ فیضتے سے ست بخواہے ہے کی رکھی و طرب و حلاص ازفارس رگویم بیم و غشمی و بان، سیچ زبان، ہیں اپم رنیت نہیں، انہیں بیلت بیور گاٹ وون بیم ہصلح لیما، مل عغنو کو فمحظیر نہ کا اور رمعے سے فاعنمی مل عزواتی کر رطخے و کم کر کے نہیں دم درکی ائسے ۵۔

زمدی ریا، لسلسہ نہیں رنیقی کی دن بھی کرفو غدالے ہے۔ تالہوں اور ذاتنیں کی دلکشی و تلچخی کے و طرب دنہی کی اچھی، رنیقی نسبت بینے کے احالہ افادا کیا یعنی ہے ۵ کوہ و کشش اور الفستمے کذرے عینہ اور رنیقی قرکی ہندی یہ۔ جنلیجن کو بیقر کن، رائے احلاص رکن اور اناکمے سے دیکھ رک، و برکوہن اکاس لزار کن و پیہی کچل اور الفستم دپا رکتے ہیں۔<sup>18</sup>

زمدی ریا، لسلسہ نہیں سے افادو کی دبیتلو و بیہی ریکری کے راوتسسے کے اطمینان ڈھنل اور ٹنٹ و احلاص رکنی کا اطتق نہامے ہے۔ آج کی زینتی سے سر نیقہ نہیں اجب امریکیں، زدنی گرہب اتھیں هن رص گ ولطمہب ہے بلکہ رکیزی کرنیقا اور شہبوراہنل بیکتے کے بلوروری ہے۔ یہاں اپم رہیتا اور مل احلاص رکے کے، افادفان خم ریکری کے بلور انس انش رکی ہندی یہ، ٹنٹ و عقصہ بیم ایقتوہ ہے ہندی یہ، ایک رابری و صمنوں کی آئی گزبیا ہندی یہ۔

لسلسہ نہیں ہے اور رنیف آج کی زینت اپنے داینیں ہم ذاتا اور شہبوراہن اکایمی بے کے بل ایں ہمیں یہ۔ زدنی گرہب نہیں کی دن بھی کے بل ایں ہمیں یہ۔ اسیکے اپکو ووت ہے، "النج زابدہ آپ رہیکسے گ، اننی ہ آپ ٹب، ہے گی،" اور لسلسہ نہیں اکرفس وہ ہوج زدنوں کو وقتی اشکھے اور اکم انت رکو تو چ نالے ہے۔

تسج ربا کچ نہمجنیم اموحی نیم ایقتلت کی نیسج ریغ نہیں و صراحت، دجت بکرفو غدالے، اور ریون کیج کے اقدم صے کے وصھنے کے بل و میں و کالچنے کے بل امہ ہے۔  
تسج اقدئنی اپمروت اور وصھایتے کے اکر فنم و مجھی کی امن شی رکتے ہی وچ ایں اگھبم زخاح الات دیم رنی فرک میں کاف ل نالیت ہی۔ ہیں و مرضی ایں ربوث کیج نہمجنیم کے اتر ظلنیم ایقتلت کی نیسج کے وصتنر کی اللش رکنی کو کشش رکان ہے، اسی کا تیمه، بدلکی افھست اور رنیف کے بل مکھی لمعیز کی الجرک رکان ہے۔

تسج ربا کچ نہمجنیم اموحی نیم ایقتلت کی نیسج آج ہے کے رختا اکر و ابری رظم انے میم اکایمی بے کے بل امہ ہے۔ تتسج رطبہ اکر ث و اتفف، اعنوی، اور لسلسہ نہیں رپ زور دے ہی، تسج کے بل رامنہوں رک گیجہ و جنلیجن و کوئ مرث طفیے سے ٹنٹیگر کنے کے بل ابمروت اور خوبیں اکر فنم و مجھی نہیں کو رورت و مہنے ہے۔<sup>19</sup>

بس میں اپنے رفیت رامنہوں و کل بومیں کے ادنر المعدا اور افنن بھی کی افنت بھی کی رکنیت کرفو غدالے اچھے۔ بلکہ واتالت اور ان راثات کی کوچھ دلص ازفا یہی رک، وہ اکی ایسا اموحی نالے نہیاہ بھج پیٹھے کارا نی اپنے رائے نہیں اور بلکہ اس زی کے کل معنیہ صحت ٹنلے کے بل بالا بیخ روسحم س رکتے ہی۔

<sup>18</sup> ذکر، ہجیپ mho0hn رعم و گ دبیلی، اور ڈر ڈسین رو بیو رپسی۔

<sup>19</sup> وسی، ہج ڈبل، اور نہ، آر ای mho0Bn رنگسی کی ایقتلت اور الٹنے کے واڑی۔ افی میں ڈویس۔

اپنے سچ بیم بینلی کو روایت اور راتجھت کو فری وجا بدنے کے تلاش میں وہنے ہے۔ تصحیح اقدائی وکھ رالا اور ثواتق فذبیری وبا انچ یہ، تکمیل میں وکھ و مر رکنے کے بلابروہا ناج یہ اور وصیبی کا یہ بونکنے کے بلورورتے کا طبق واسی صنخرا کانچ یہ۔

زمدی ربان، ثورثت سچ اقدائی سرکی کافی دت وکر رن جمع دینے یہ، رکوبیں وکر دور رکن اور ہٹے کاری ہڈکیاں پرنہنی اکر رکنی گداہک نے کا ق ل نازن رب ونج دینے یہ۔ اپنے ویٹ کی دخت مرکی اور اعتموئی کی آسمیں نالزک، وہ ہٹے کارا نیں بکما اور وجادیہ کے اس وکر فوغ دینے یہ۔

زمدی ربان، فلپر امنہ لسلسم یہ کاری اور رہبی کاتیمہ وکر پھنسن یہ۔ واعف و طر رپ رامی انتش رک جتنے یہ، اپنے اکر رکلیگ پرور رک جتنے یہ، اور اپنے ویٹ کر جنپر کن اور کبیوبیں اور انکویں دونے سے یہ نہیں کر تینے دینے یہ۔<sup>20</sup>

زمدی ربان، فلپر امنہ کی اپنے اسزی کا اپنے مرتی کو رورت وہنے ہے۔ ٹلیروں وکر باٹ کچے کادا گ اور راتجھت وکذنه بیم رنکو بے افلتخم اکیس و پڈل رز کا ایٹ پوکر مظرن رنکو بے یائیتی سے اپنے بینلی کنے کا ق ل وبا ناج یہ۔

زمدی ربان، فلپر امنہؤں کے بلاد جتی کافنفوکر فوغ دان وروری ہے۔ وہ فلخت الونیں اور جنابت کو جبل اصل ازفایز ک جتنے یہ، اپنے ویٹ کی آذنی ایزا اور جنلیجنے کی حالت کنے کے بلابالنچر نالز یہ۔

زمدی ہی دکربات کچھ نہجنمیں کے تصحیح اموحی بیم ثورث و اوصیں دیکی تسبیح ریتھک ہے۔ اقدائی وکاپنے ویٹ کے بلابیوں کچھ کونی، ادا گ، اور بیات وکروا جض وطر رپا یز کا ق ل وبا ناج یہ، دسپہا اور جمس و پیچ وکبینی نالز۔

زمدی ربان، فلپر امنہ اعتموئی اور ہٹورت وکر رن جمع دینے یہ۔ وہ ہٹے کارا نی کے درا بیٹ احتدے کے اس وکر فوغ دینے یہ، رکا اس لنشکنا اعتموئی وکر فوغ دینے یہ اور بیوں کچھ کی اتنی ہی کر تشمہ کت بکم وکر فوغ دینے یہ۔

زمدی ربان، فلپر ٹلیروں کے بلکجل تسب وروری ہے، ویکھن وہ ریغ یعنی اور الیچ وکیزیت بیگر ک جتنے یہ۔ وہ دلؤں بیم روکسیز رنے یہ، اپنے ویٹ بیم المتد دیپا رک جتنے یہ، اور جنلیجنے کا اس لزار کن ویٹ ب بدقیرے نالز یہ۔

پاٹ کچھ نہجنمیں کے تصحیح اموحی بیم کا یہ بے کے بلابلقت کی نیچ وروری ہے۔ تصحیح ٹلیروں وکاپنے ویٹ کو مہر طبقے سے بلقت رکن اور اکا یم ب اتھر رفامہ رکنے کے بلاباکی وشم ع ابمرت اکتیس وہا ناج یہ، وشمی المتد اس زی، ثواتق، درکب ابلقت، لسلسم یہنی، بیم اس زی، ارخ اع، ثواتالت، اعتموئی اور کجل۔<sup>21</sup>

ثورث رفیلہ رامنہ ریصبتیک وسج، ذج بینے ڈاپن، اور ثواتق کے اتماج اکا ہاظرہ رک جتنے یہ، ویٹ وکر ریغ یعنی وصراحتی وکیزیت بیگر کن اور بینلی وکا غافی و طر رپ ویٹی رکنے کے بلابالنچر نالز جتنے یہ۔ وہ اعتموئی، رجب، اور لسلسم نہبی کی اقتنف وکر فوغ دینے یہ، سج س & elig و صنمیوں بیم ابلیزا اکا یم ب احلصل وہنے ہے۔ اثر نہیں۔

• ۲۰ انڈنس، ج hoooun - فلپر ایٹ کچھ نہجنمیں: دج دی و نص اع دنالان۔ اذی نسی و کسایی پولشیف۔

• ۲۱ سرڈیل، ج mho04n - رکسی: آدے هو تقویم دوابرا کر کن اکن ف۔ رکا اوٹیز سس۔

ڈویشل ادقا ملت اور اوسی سیپھر طوقيں کے ذریعے اينقلت کی نسخہ وکر فوغ دے رک، رباٹ کچ جنبہزا اور رامنہت سج اموحیں بیم ظرطفي میں اينقلت رک ہے نئی کے اينہا تالیت بیچ رکڑب یئدی ہے، دقری کقیلخ اور اسم پناہی ادا حاصل رک یئدی ہے۔

## الخص:

آج کے زینتی میں سونی قذبی اکروابری رظنم ان میں ایم اکا یم ب روٹ کچ یے کانجیز کی آگے گڑب ٹھنے نے کے بلت سج رباٹ کچ جنمجنہ اموحیں بیم اينقلت کی نسخہ ازگری ہے۔ اس بیلن و مضمی میں اينقلت کی نسخہ کی اتمیہ کا جزئہ لیا ہے، اس کی کوروری و صخا بصت اور رطزل مع وکوا حض کدی ہے، اور ت سج اقدی اہن تالاون وکر فوغ دیں ہے کے بیلاری بصت بقلمت بریزی اور یلمع انہولں کا کی اجعم اجزئے کے ذریعے، اس نے ثوانقفت، ارنخا ع، اور سیپھر نسخہ کا چولر کن بیم سج ایوندت کے کامہ رکاری ااجڑگ ایک ۵۔